

بچوں کے لئے بائبل  
تحائف

خداوند چھ ابراہم

سندس لولس

ازماوان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Byron Unger; Lazarus  
Alastair Paterson

کے مطابق: M. Maillot; Tammy S.

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



اڪه رآڙ ديوت خداوندن  
ابراهيمس اڪه عجيب حڪم-



يه ازماونہ خاٲرہ ز آيا  
ابراہم چھا پننِس نيچوس  
خدایہ سنڊِ کھوتہ ژور  
لول بران کِنہ۔



مگر ابراهمن آس خد وندس پٽھ پڙھ کرنی زانی مٿ۔  
حکم وار نہ سمجھتھ تہ۔ صبحس سُلی دراو سہ  
پنی ز غلام بیٽھ قربان گاہ کس بالس کن۔



نیرنہ بروئہہ کر تھی زنی ہچہ  
تیار تاکہ قربانی تیار کرنہ ہاپتہ  
زالہ نار۔ ابراہمن کور خداوند  
سنز تابعداری بجا انک سنز۔



ترییه دوی واتی تم بالس نکه "روزو ائی"

ابراهمن وون غلامن - اسی گژهو عبادتہ باپتہ تہ یمو واپس توبہ

نش - اسحاقن توجہ زنی ہر، ابراہمن

تل تیونگل تہ بیہ اکھ شراپچ -



مگر بۇنە باپتھ كتە چۇ قربان كٹھ۔

"اسحاقن پروژھس" خدا وند سوز پانہ

كٹھ۔ "ابراہمن وونس یور۔



دُونوںے وَاْتی برابر تَتھ جاییہ یوسہ خداین ژَارْمِثْرَ اَس۔ اَتھ  
جاییہ کور ابراہمَنَ اکھ قربان گاہ کھڑا تہ لاجن ہر۔  
خدایس دیدمان قربانی زالنہ باپتھ۔ ابراہمَنَ اُسی واریاہ  
قربان گاہ تیار کُری مِتی۔ مگر یہ اکھ قربان  
گاہ تیار کُرن اوسس سیٹھاہ کُدر۔



ابراہمن گونڈ پُن ٹوٹھ نیچو اسحاق وار تہ  
کھولن قربان گاہس۔ ابراہم اوسا پزی خداوند  
سُنڈ حکم مانن وول۔ تہ پُن ٹوٹھ اسحاق پُن  
کُن اولاد قربان کرن وول؟



آ! شراکہ تراؤ چمک  
یتھے ابراہمن یہ نیبرگڈ۔ اُسنڈ دل  
آسہ ہے اندری دزان۔ مگر ابراہم  
اوس زانان زِ تس چھ خدایہ سُنڈ  
حکم بجا اُن۔



ٹھہر! خدا وند

سندی پھرشتن لائیس

کریکھ۔ مے زون زِ ژ چھکھ

پننِس خدایس کھوژان۔ پنُن

کُن اولاد پیش کرنس

رودُکھ نہ ژ پتھ۔



ڪنڌي ڏپھس ڪن اڪھ ڏمبہ ۽ ڇھتھ ٿروو ابرھامن  
اسحاق ڀلہ تہ ڪورن امس بدلہ ڀوہے ڏمبہ ڦربان۔  
شايد سونچ اسحاق۔ خداين سوز  
پزي يہ زن تس مالگي ابرھامن وون۔



مآلی پتھرن ہنز پوزایہ دوران وون خداوند سندی فرشتن ابرہامس۔ چانیو شریو  
دسی سپد سارنے قومن پیٹھ فضل۔ تکیاز ژ رودکھ تابعدار۔  
اکہ دوہہ پراو ابرہام سندیو زریو منزے عیسیٰ زئم۔



ابرام تہ اضحاق واتی گر واپس۔ کینہہ کال پتہ پیوکھ ماتم۔  
سارا مویہ۔ ابرامس مویہ آشنی تہ اسحاقس پنی موج۔



(سارا) آسودِ كرنه پته سوز

ابرهامن پنن زيڙه غلام اسحاق

سنڊ باپته آسني تلاش كرنه باپته۔



غلام گو تہندس آبایی علاقس  
منز ابرہام سندین آشناونے منز  
اسحاق سیند بایتہ آسنی ژھانڈنہ۔



غلامن مونگ خدایس امہ باپتھ کانہہ نشانہ یا اشار۔ یوسہ کور میانن یمن وونٹن  
تریش چیاوناو روز اسحاق سیند باپتھ مناسب۔ ولی آیہ ربقہ یمن وونٹن تریش  
چیاوناونہ۔ یہ اس ابرہام سیندوے آشناو منز۔ غلامس توگ بوزن ز خداوندن کور  
تسند دعا قبول۔



رَبَقَّةٌ دَرَايَهُ پُنُّنُ طَهْرٍ كَرَّتْ رَأْوَتَهُ اسْحَاقُ سَيِّدِي خَانِدِرُ كَرْنِيهِ - ثَمِّي دِيْتُ ثَمْسِ  
مَوْجِ مَرْنِيهِ پَتِيهِ تَسْلِي - اسْحَاقُ كَوْتَاهِ اَوْسِ اَمْسِ لَوْلُ بَرَانِ!



خداوند چھ ابراہم سندس لولس ازماوان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

پیدائش 22 - 24

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

